



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

February 19, 2024

### **2,651 new companies incorporated in January: SECP**

ISLAMABAD, February 19: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) registered 2,651 new companies in January 2024, showing an increase of 10% compared to the corresponding period last year. The total number of registered companies now stands at 212,108. Total capitalization (paid-up capital) with regard to newly incorporated companies is PKR 5.2 billion.

In January, around 58% of companies were registered as private limited companies, 38% as single member companies, and 4% as public unlisted companies, not-for-profit associations, trade organizations, limited liability partnerships, and foreign companies. Five foreign companies also registered their place of business in Pakistan. Around 138 foreign applicants were registered from overseas through eServices. Almost 99.85 percent of companies were registered online.

The information technology sector took the lead with regards to incorporation with 356 companies, trading with 319, real estate development & construction, and services with 277 each, tourism with 145, education with 116, food & beverages with 94, corporate agricultural farming with 93, e-commerce with 72, engineering with 65, chemical with 61, power generation with 58, marketing & advertisement, and textile with 55 each. Furthermore, pharmaceutical, mining & quarrying with 53 each, healthcare with 48, , fuel and energy with 45, transport with 44, cosmetics & toiletries with 33, communication with 28, broadcasting & telecasting with 27, lodging, and auto and allied with 22 each, cables & electrical goods with 19, paper & board with 18, and 196 companies were registered in other sectors.

Foreign investment has been reported in 68 new companies, having foreign investors from Afghanistan, Azerbaijan, Canada, China, Egypt, Finland, Germany, Hungary, Japan, Malta, Nigeria, Palestine, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, UAE, UK, Ukraine, and the US. The major chunk of investment was received from China with 37 companies, Germany, Singapore and US with 4 companies each, Afghanistan with 03, Canada, Sri Lanka and UK with 2 each, and in 10 companies from other countries.

As a result of successful integration of SECP with FBR and various provincial departments, 2,552 companies were registered with FBR for registration of NTN, 42 companies with EOBI, 28 companies with PESSI/SESSI and 34 companies with Excise and Taxation department.

ایس ای سی پی میں جنوری میں 2,651 نئی کمپنیاں رجسٹر کی گئیں

اسلام آباد، 19 فروری: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے جنوری میں 2,651 نئی کمپنیاں رجسٹر کیں، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مہینے کے مقابلے میں 10 فیصد زیادہ ہیں۔ نئی رجسٹریشن کے بعد رجسٹرڈ کمپنیوں کی کل تعداد، دو لاکھ بارہ ہزار ایک سو آٹھ (212,108) ہو گئی ہے۔ نئی رجسٹر ہونے والی کمپنیوں کا کل ادا شدہ سرمایہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے ہے۔

جنوری میں رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں تقریباً 58 فیصد کمپنیاں پرائیویٹ لمیٹڈ، 38 فیصد سنگل ممبر جبکہ بقیہ چار فیصد میں پبلک ان لسٹڈ، غیر منافع بخش، و تجارتی تنظیمیں، محدود ذمہ داری کی شراکت داری، اور غیر ملکی کمپنیاں شامل ہیں۔ اس ماہ پانچ غیر ملکی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں اپنے کاروبار رجسٹر کروائے۔ ایس ای سی پی کے آن لائن پورٹل کے ذریعے بیرون ملک سے 138 غیر ملکی درخواست دہندگان نے پاکستانی میں اپنی کمپنیاں رجسٹر کروائیں۔ اس ماہ تقریباً 99.85 فیصد کمپنیاں آن لائن رجسٹرڈ ہوئیں۔

اس ماہ سب سے زیادہ کمپنیوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں رجسٹر ہوئیں جن کی تعداد 356 تھی۔ اس کے بعد تجارت کے شعبے میں 319 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ ریل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ اور کنسٹرکشن اور خدمات، ہر ایک شعبے میں 277 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ سیاحت کے شعبے میں 145، تعلیم میں 116، فوڈ اینڈ بیوریجز میں 94، کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ میں 93 اور ای کامرس میں 72 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ اسی طرح انجینئرنگ میں 65، کیمیکل میں 61، پاور جنریشن میں 58، مارکیٹنگ اور اشتہارات اور ٹیکسٹائل، دونوں میں 55، فارماسیوٹیکل، کان کنی اور کھدائی میں 53، ہیلتھ کیئر میں 48، ایندھن اور توانائی میں 45، ٹرانسپورٹ میں 44، کامیٹیکس اور ٹرانسٹریز میں 33، کمیونیکیشن میں 28، براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ میں 27، رہائش میں 22، آٹو اینڈ الائیڈ میں 22، کیبلز اور الیکٹریکل سامان میں 19، پیپر اینڈ بورڈ میں 18، اور دیگر شعبوں میں 196 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔

اس ماہ 68 کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی رپورٹ کی گئی۔ ان ممالک میں افغانستان، آذربائیجان، کینیڈا، چین، مصر، فن لینڈ، جرمنی، ہنگری، جاپان، مالٹا، نائیجیریا، فلسطین، چین، سعودی عرب، سنگاپور، سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، یو اے ای، برطانیہ، یوکرین اور امریکہ شامل ہیں۔

ایس ای سی پی کے کمپنی رجسٹریشن پورٹل کے دیگر محکموں جیسے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹ اور مختلف صوبائی محکموں کے ساتھ انضمام کے نتیجے میں، ایف بی آر سے 2,552 کمپنیوں نے این ٹی این کی رجسٹریشن حاصل کی جبکہ 42 کمپنیاں ای او آئی بی، 28 کمپنیاں صوبائی ریونیو کے ساتھ اور 34 کمپنیاں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ رجسٹر ہوئیں۔